



سوال

(531) ہتھیاری رقم کی واپسی

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

دو آدمیوں نے کسی شخص سے فراؤ کر کے مبلغ دو ہزار روپے ہتھیاری۔ اس جرم میں وہ دونوں برابر کے شریک ہیں، اور رقم کو تقسیم کر لیتے ہیں، اب ان میں سے ایک توبہ کر لیتا ہے چونکہ مالی معاملات میں توبہ کی شرط یہ ہے کہ مظلوم کا مال واپس کیا جائے۔ کیا اسے صرف اپنا حصہ مبلغ ایک ہزار روپیہ واپس کرنا ہو گا یا اپنی ذاتی گردہ سے دو ہزار واپس کرے گا؟ وضاحت فرمائیں۔

اجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السوال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

واقعی حقوق العباد کا معاملہ انتہائی سُنگین ہے، مالی معاملات کے متعلق توبہ میں دو چیزوں پیش نظر رکھنا ہوتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے دوسرا یہ کہ مظلوم کا مال واپس کیا جائے یا اسے راضی کر لیا جائے، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو قیامت کے دن اسے نیکیاں دے کر مظلوم کی برائیاں لے کر حساب برابر کیا جائے گا۔ صورت مسئلہ میں جس شخص کو اللہ کا خوف دامن گیر ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ لپنے دوسرے ساتھی کو اس توبہ پر آمادہ کرے، اسے خوف آخرت دلاۓ پھر دونوں مل کر اس کے نقصان کی تلافی کریں اور اس سے معافی بھی مانگیں اور آئینہ کیلے ایسا فراؤ یاد ہو کہ نہ کرنے کا مضمون ارادہ کریں، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو جسے اللہ کا خوف آیا ہے وہ اللہ سے معافی ملنگے اور لپنے حصے کی رقم مبلغ ایک ہزار روپیہ واپس کر کے مظلوم سے معاملہ کی وضاحت کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اتنا دے کر اللہ کے ہاں اس کی رہائی ہو جائے گی اس پر دوسرے ہزار کتابوں نہ ڈالا جائے جو اس کی ساتھی کے پاس ہے، کیونکہ برے کام کا بدلہ توبے کام کے مطالعیں اور اس کے برابر ہو گا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسْنَى فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالَهُ وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيْئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْمَاهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ ۱۶۰ ۖ ... سورة الانعام

"اور جو برائی لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہو گا اس اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی تھی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔"

امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ قیامت کے دن وہ معاملہ کرے گا جو اس کی شان رحمی کے مطابق ہے۔

حذاماً عندی والله أعلم بالصواب



جعفریہ اسلامیہ
الریسیخیہ
مددِ فلسفی

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 3، صفحہ نمبر: 445

محمد فتوی